

**Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)**

تاریخ ایسے کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل ترین حالات سے کیا لیکن آگے چل کر وہ دنیا کے کامیاب اور نامور شخصیات میں شمار ہوئے۔ کامیابی، عزت اور شہرت آپ کو کبھی پلیٹ میں رکھ نہیں دی جاتی صرف دولت ہی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دی جاسکتی ہے اس کے لیے بھی ایک شرط لازم ہے کہ وہ آپ کے آباؤ اجداد کے پاس جائیداد ہونی چاہیے پھر ہی آپ کو دولت ملے گی۔ دولت سے آپ دنیاوی لوازمات تو خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں خرید سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو عزت کمانے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں ذلت کمانے میں یا متنازع بننے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔

Name SANA BIBI
Batch 324
Campus Main Campus Islamabad

English Translation Test - 2

History is crowded with such successful people who started their life with extremely hard/tough severe conditions but in the future they became successful they were counted among and renowned personalities of the world.

Success, respect and prestige are never served to you in plate. Only wealth can be served to you in plate but there is also a condition on it, that you are only served with had ancestor wealth if your forefathers had it - You can buy worldly pleasures with wealth but can never buy happiness - Sometimes many it takes centuries passes two orders to get earn respect and only a moment is enough to loss it.

average
dont skip urdu words
try to translate word to word
6/10